

برائے فوری اجراء

برامپٹن میونسپل اور سکول بورڈ الیکشن کے لیے امیدواروں کی نامزدگیوں اور فریق ثالث مشہرین کے اندراجات کا آغاز مورخہ 2 مئی 2022 سے ہو رہا ہے

برامپٹن، آن (26 اپریل 2022) – سٹی آف برامپٹن کا کلرک آفس 2022 کے برامپٹن میونسپل اینڈ اسکول بورڈ کے انتخابات کے لیے امیدواروں کی نامزدگیوں اور تیسرے فریق کے مشہرین کے اندراجات کا آغاز بروز پیر، مورخہ 2 مئی سے کر رہا ہے۔ امیدواروں کی نامزدگی کی مدت 19 اگست 2022 کو دن 2 بجے سے ختم ہو جائے گی۔

تیسرے فریق کے مشہرین کے لیے رجسٹریشن کی مدت 21 اکتوبر 2022 کو ختم ہو جائے گی۔

امیدواروں اور تیسرے فریق کے مشہرین کے لیے عمومی ہدایات کے بارے میں ایک پریزینٹیشن سٹی کی [ویب سائٹ](#) پر دستیاب ہے۔

امیدواران

سٹی درج ذیل نشستوں کے لیے نامزدگیاں قبول کرے گا:

- میئر
- ریجنل کونسلر
- سٹی کونسلر
- اسکول بورڈ ٹرسٹی برائے:
 - پیل ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
 - ڈفرن پیل کیتھولک ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ
 - کونسیل سکولیرے کیتھولک مون ایونر (Conseil scolaire catholique MonAvenir)

سٹی آف مسی ساگا اسکول بورڈ کے ٹرسٹی، کونسیل سکولیرے ویامونڈے (Conseil scolaire Viamonde) کے لیے امیدواروں کی نامزدگیوں کو قبول کرے گا۔

نامزدگی کے فارم اور امیدواروں کے لیے معلوماتی پیکج [آن لائن](#) برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہیں۔ فارم کو لازمی طور پر ذاتی طور پر (یا کسی ایجنٹ کے ذریعے) عمومی اوقات کار، صبح 8:30 – شام 4:30 تک ایام کار کے دوران 2 مئی 2022 سے 19 اگست 2022 تک بھرا جانا چاہیے۔ نامزدگی فارم داخل کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہو گی۔ مطلوبہ فارم، معلوماتی پیکج تک رسائی حاصل کرنے اور جمع کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے براہ کرم www.brampton.ca/BramptonVotes پر جائیں۔

فارم بھرتے وقت، فیس (میئر کے لیے \$200.00، دیگر تمام نشستوں کے لیے \$100.00) بصورت نقد رقم، ڈیبٹ، تصدیق شدہ چیک یا منی آرڈر کے ذریعے ادا کی جا سکتی ہے۔ درخواست دہندگان کو لازمی طور پر اپنے [نام اور قابل قبول پتے کا ثبوت](#) فراہم کرنا ہو گا۔ تمام اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکسز یا دیگر الیکٹرانک ورژنز کی اجازت نہیں ہے۔ تمام ممکنہ امیدواروں کو الیکشن کے مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کا چندہ وصول کرنے یا فنڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنا

نامینیشن پیپر اور انڈورسمنٹ آف نامینیشن فارم لازمی طور پر جمع کروانا ہو گا۔ سکول بورڈ ٹرسٹی کے امیدواروں سے انڈورسمنٹ آف نامینیشن فارم جمع کروانے کا تقاضہ نہیں کیا جاتا۔

تیسرے فریق کے مشہرین

کوئی بھی ایسا شخص، کارپوریشن یا ٹریڈ یونین جو کسی امیدوار کی مہم چلانے، حمایت کرنے یا مخالفت کرنے کے لیے کسی براڈ کاسٹ، تحریری، الیکٹرانک یا دیگر ذریعے سے اشتہار بازی کرنا چاہتا ہو، اسے لازمی طور پر سٹی کے ساتھ رجسٹر ہونا ہو گا۔

رجسٹریشن فارم اور معلوماتی پیکیجز **آن لائن** اور برامپٹن سٹی ہال میں سٹی کلرک کے دفتر میں دستیاب ہیں۔ رجسٹریشنز 2 مئی 2022 سے 21 اکتوبر 2022 تک ہفتے کے دنوں میں دفتری اوقات کے دوران ذاتی طور پر (یا ایجنٹ کے ذریعے) جمع کروانا لازمی ہے۔ رجسٹریشن کے کاغذات داخل کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہو گی۔ مطلوبہ فارم، معلوماتی پیکیج تک رسائی حاصل کرنے اور جمع کرانے کے لیے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے لیے براہ کرم www.brampton.ca/BramptonVotes پر جائیں۔

رجسٹریشن داخل کروانے والے شخص کو کاغذات جمع کراتے وقت **اصل شناخت** پیش کرنے کی ضرورت ہو گی۔ کوئی نمائندہ جو کسی کارپوریشن یا ٹریڈ یونین تیسرے فریق کے مشہر کی جانب سے رجسٹر ہونا چاہتا ہو، اسے کارپوریشن یا ٹریڈ یونین کے نامزد اہلکار سے اجازت نامے کا خط فراہم کرنا چاہیے۔ تمام اصلی دستاویزات قبول کی جائیں گی؛ فیکس یا دیگر الیکٹرانک ورژن کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے فریق کے مشہرین کو الیکشن کے مقاصد کے لیے کسی قسم کی مہم جوئی کے لیے چندہ وصول کرنے یا فنڈ استعمال کرنے سے پہلے اپنے رجسٹریشن کے کاغذات لازمی طور پر جمع کروانے ہوں گے۔

نامزد امیدواروں اور رجسٹر شدہ تیسرے فریق کے مشہرین کی فہرست کی باقاعدگی سے تجدید کی جاتی رہے گی اور یہ www.brampton.ca/BramptonVotes پر دستیاب ہو گی۔

اقتباس

"سٹی کلرک کا دفتر تمام ممکنہ امیدواروں اور فریق ثالث مشہرین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سازی اور 2022 کے برامپٹن میونسپل اور اسکول بورڈ کی انتخابی مہم کے دوران ان سے کیا توقع رکھی جائے، کے حوالے سے اپنے آپ کو واقف کریں مزید معلومات کے لیے brampton.ca/BramptonVotes پر جائیں یا اپنے کسی بھی سوال کے لیے 311 پر یا bramptonvotes@brampton.ca پر رابطہ کریں۔"

- پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ **ٹوٹن**، **فیس بک** اور **انسٹاگرام** پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca

